



ندیم خان کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کر دیا گیا

لاہور، 13 مئی 2020ء:

سابق ٹیسٹ اسپنر ندیم خان کو تعیناتی کے ایک مربوط عمل سے گزرنے کے بعد پی سی بی کا ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کر دیا گیا ہے۔

ندیم خان ان 16 امیدواروں میں شامل تھے جنہوں نے اس عہدے کے لیے درخواست دی تھی۔ اقبال قاسم (چیئر مین کرکٹ کمیٹی)، وسیم اکرم (رکن کرکٹ کمیٹی)، ڈیوڈ پارسنز (سابق ڈائریکٹر پرفارمنس انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ) اور وسیم خان (چیف ایگزیکٹو پی سی بی) نے ان کا انٹرویو کیا۔

ندیم خان نے اپنی تقرری کے فوری بعد قومی سلیکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس عہدے کے لیے ندیم خان کے متبادل کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔

ڈائریکٹر اکیڈمیز مدثر نذر اور ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز ہارون رشیدی کی روانگی کے بعد نو تعمیراتی عمل کے تحت ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کا نیا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ دونوں عہدیداروں کی مدت ملازمت 31 مئی کو مکمل ہو رہی ہے۔ اب دونوں شعبوں کی ذمہ داریاں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس نبھائیں گے۔ پی سی بی کو یقین ہے کہ نیا نظام کھیل اور کھلاڑی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔

اس تقرری کے تناظر میں ندیم خان، معین خان کرکٹ اکیڈمی کے قیام اور یو بی ایل اسپورٹس اکیڈمی کی کامیاب بحالی اور مالی معاملات کا تجربہ رکھتے ہیں۔

فی الحال یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں 1200 طالب علم ہیں۔ ندیم خان کے دور میں یو بی ایل کرکٹ ٹیم قائد اعظم ٹرافی 2015-16 کے فائنل میں رسائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ون ڈے کپ 2017-18 جیتنے میں کامیاب رہی تھی۔ ندیم خان کے زمانے میں ہی یو بی ایل کے 4 کھلاڑیوں نے قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنائی جبکہ جونیئر سطح پر 5 کھلاڑیوں نے مختلف ٹیموں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔

ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر بننے سے قبل 50 سالہ ندیم خان نے 1986-87 تا 2002-03 تک

فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی۔ اس دوران انہوں نے 2 ٹیسٹ، 2 ایک روزہ اور 153 فرسٹ کلاس میچز کھیلے۔ ندیم خان کے بین الاقوامی کیریئر کی جھلکیوں میں 1993 میں برائن لارا کی وکٹ حاصل کرنا اور معروف کلکتہ ٹیسٹ 1999 میں سچن ٹنڈولکر کو رن آؤٹ کرنا شامل ہے۔

ندیم خان:

اپنی تعیناتی پر اظہار خیال کرتے ہوئے ندیم خان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ بننے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جب کھیل کے معیار کو بڑھانے اور بین الاقوامی تقاضوں کو اپناتے ہوئے تمام سطح پر اصلاحات لائی جارہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پرفارمنس سسٹم چلانے اور ٹورنامنٹ کی ایک فاتح ٹیم کی تعمیر نو کا تجربہ رکھنا، انہیں پی سی بی ہائی پرفارمنس سنٹر کی نگرانی کے لیے درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

ندیم خان نے کہا کہ اُن کا اہم مقصد، ان مراکز کے ذریعے نوجوان اٹالوں کی بروقت نشاندہی کرنے کے بعد ڈومیسٹک پروگرامز میں ان کی نشوونما اور ترقی کا مستقل جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پی سی بی کے ساتھ کام کے دوران اپنا نمایاں اور بامعنی حصہ ڈالنے کے منتظر ہیں۔

وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ وہ ندیم خان کو پی سی بی فیملی میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ عزت، ساکھ اور کرکٹ کا بہت سا علم لارہے ہیں۔ وسیم خان نے کہا کہ کھلاڑیوں کے لیے اعلیٰ سطحی کرکٹ میں جانے کا راستہ، ڈومیسٹک کرکٹ اور ہائی پرفارمنس نظام سے متعلق ندیم خان کا تجربہ قومی اور بین الاقوامی کرکٹ کے درمیان نمایاں فرق میں پل کا کردار ادا کرے گا۔

چیف ایگزیکٹو پی سی بی کا کہنا تھا کہ پی سی بی کے اسٹریجک پلان میں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کرکٹ کا کردار انتہائی اہم ہے اور ندیم خان نے گذشتہ تین دہائیوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ میرٹ پر مبنی اور معیاری فرسٹ کلاس کرکٹ اور ہائی پرفارمنس نظام کی تیاری میں مدد کرنے کے لیے سب سے بہترین امیدوار ہیں۔

- مدثر نذر کی روانگی سے متعلق میڈیا ریلیز [یہاں](#) دستیاب ہے۔
- ہارون رشید کی روانگی سے متعلق پریس ریلیز [یہاں](#) دستیاب ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4